

برائے فوری اجراء

## برامپٹن نے ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس میں ایک کمیونٹی یوتھ ہب کی تیاری کے لیے وفاقی اور صوبائی سطحوں سے سرمایہ کاری کے حصول میں کامیابی حاصل کر لی

برامپٹن، آن (5 مارچ 2021) – آج، میئر پیٹرک براؤن؛ برامپٹن سٹی کونسلرز؛ سونیا سیدھو، ممبر پارلیمنٹ برائے برامپٹن ساؤتھ، معزز کیتھرین میک کینا، وفاقی وزیر برائے انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز کی جانب سے؛ اونٹاریو کے منسٹر فار انفراسٹرکچر عزت ماب لاری اسکاٹ کی جانب سے، جناب پرامبیت سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے شمال بزنس اینڈ ریڈ ٹیپ ریٹکشن اور برامپٹن ساؤتھ کے صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر اور برامپٹن ویسٹ کے صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر جناب امرجوت سندھو نے برامپٹن میں ساؤتھ فلیچرز کے اسپورٹس پلیکس میں کمیونٹی یوتھ ہب کی مجوزہ تعمیر کے لیے فنڈز کی فراہمی کا اعلان کر دیا ہے۔

کینیڈا کی حکومت اس منصوبے میں کینیڈا پلان میں سرمایہ کاری کی کمیونٹی، کلچر اینڈ ری کریئیشن انفراسٹرکچر سٹریم (CCRIS) کے ذریعے \$565,000 کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے حکومت اونٹاریو \$470,786 مہیا کر رہی ہے جبکہ سٹی آف برامپٹن \$376,714 فراہم کر رہا ہے۔

ساؤتھ فلیچرز کے اسپورٹس پلیکس میں واقع کمیونٹی یوتھ ہب، برامپٹن کے نوجوانوں کو نوجوانوں کی دلچسپی کے پروگراموں، خدمات اور سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ایک محفوظ اور قابل رسائی مقام فراہم کرے گا۔ ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس کے کچھ موجودہ کمروں کو اوپن کنسپٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جن کو نوجوانوں کی مخصوص سرگرمیوں کے لیے وقف کیا جائے گا۔

نوجوانوں کے لیے وقف شدہ مقامات میں اضافہ سٹی آف برامپٹن کے [پارکس اینڈ ری کریئیشن ماسٹر پلان](#) کا ایک حصہ ہے۔ سٹی آف برامپٹن دو تفریحی مراکز – ساؤتھ فلیچرز اسپورٹس پلیکس اور سنچری گارڈنز ری کریئیشن سنٹر – کی جگہوں کو کمیونٹی یوتھ ہب میں تبدیل کرنے اور نوجوانوں کو ایک محفوظ اور خیر مقدمی مقام فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جو شہر بھر کے نوجوان افراد کے لیے خدمات اور سرگرمیوں کے واحد مرکز کے طور پر کام کرے۔

رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شہر کے [مشاورتی عمل](#) سے حاصل ہونے والی رائے کے مطابق، دونوں کمیونٹی یوتھ ہب کے لیے ڈیزائن کا عمل 2021 کے موسم سرما میں شروع ہو گا۔

### نوجوان دوست کمیونٹی ڈیزائن

مارچ 2020 میں پلے ورکس، ایک پروگرام جس کو پارکس اینڈ ری کریئیشن اونٹاریو کی معاونت حاصل ہے، کی جانب سے سٹی آف برامپٹن کو پلاٹینم یوتھ فرینڈلی کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس مرتبہ یہ تیسرا موقع ہے کہ جب اس شہر کو نوجوانوں کے لیے نشوونما اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے شاندار عزم رکھنے کے اعتراف کے لیے تسلیم کیا ہے اور یہ رواں سال پلاٹینم کی اس چوٹی کی حیثیت کو حاصل کرنے والی تین کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ مزید جاننے کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

### لنکس

- [میڈیا ریلیز: برامپٹن میں ساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس میں ایک کمیونٹی یوتھ ہب کی تیاری کے لیے کینیڈا اور اونٹاریو سرمایہ کاری کر رہے ہیں](#)
- [کمیونٹی یوتھ ہب](#)
- [پارکس اینڈ ری کریئیشن ماسٹر پلان](#)
- [یوتھ فرینڈلی کمیونٹی ڈیزائن](#)

**اقتباسات**

"ہم ساؤتھ فلیچرز اسپورٹ پلئیکس میں برامپٹن کے کمیونٹی یوتھ ہب کے لیے کینیڈا کی حکومت اور اونٹاریو کی حکومت کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ برامپٹن 14 تا 29 سال تک کی عمر کے 130,000 نوجوانوں کے ساتھ کینیڈا کے کم عمر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ کمیونٹی یوتھ ہبز تنوع اور برابری کی حوصلہ افزائی کریں گے، جدید سرگرمیوں کو فروغ دیں گے، نوجوانوں کو محفوظ مقامات فراہم کریں گے اور ہماری کونسل کی ترجیحات کے مقصد کو تقویت پہنچائیں گے کہ برامپٹن ایک تندرست اور محفوظ شہر ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے کمیونٹی یوتھ ہبز میں سے ایک کے لیے وفاقی اور صوبائی سرمایہ کاری، برامپٹن کے نوجوانوں کے لیے اس طرح کی جگہیں بنانے کے ہمارے سفر میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے باہمی تعاون سے ایسی متحرک جگہیں بنائیں گے جہاں نوجوانوں کی ضروریات کے مطابق پروگرامز اور سروسز موجود ہوں گی۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"وارڈ 4 کے کونسلرز کے طور پر، ہم نے برامپٹن میں دو یوتھ ہبز کے قیام کے لیے سٹی اور ریجنل کونسل میں بھرپور دفاع کیا ہے۔ ہم صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے آج کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ سرمایہ کاری نہ صرف اس منصوبے کو آگے بڑھانے کی بلکہ برامپٹن میں نوجوانوں کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی۔ سٹی نے اس منصوبے کے لیے علاقے کے نوجوانوں سے ان کے وژن کے متعلق فعال طور پر آراء حاصل کی ہے اور ہم ساؤتھ فلیچرز اسپورٹس پلئیکس میں یوتھ ہب تیار کرتے وقت ان نوجوانوں کی آراء کو ضرور شامل کریں گے۔"

- مارٹن میٹیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ اور جیف بومین سٹی کونسلر، وارڈز 3 اور 4، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ نوجوانوں کے لیے مخصوص جگہوں کو ان کی ضروریات کے مطابق بنانے کے لیے منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کرنے کے لیے پر عزم ہے اور ساؤتھ فلیچرز اسپورٹس پلئیکس میں کمیونٹی یوتھ ہب بنانے میں یہ سرمایہ کاری ہماری مدد کرے گی۔ ہم ان نوجوانوں کے لیے مخصوص جگہوں کے قیام کے لیے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام جاری رکھنے اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"تفریحی مراکز میں سرمایہ کاری سے لوگوں کی صحت اور فلاح و بہبود کو فروغ ملتا ہے اور یہ ایسی مشمول اور پائیدار کمیونٹیز کی تعمیر ہوتی ہے جہاں لوگ رہنا، کام کرنا اور خوشی سے اپنے خاندانوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ ساؤتھ فلیچرز یوتھ ہب برامپٹن میں موجود تمام پس منظر کے حامل نوجوانوں کو شمولیت کی ایک محفوظ جگہ فراہم کرے گا اور وہ اس سے بھرپور طور پر مستفید ہوں گے۔ یہاں پر پیش کیے جانے والے پروگراموں اور خدمات کی متنوع اقسام مستقبل کی معاشرتی ترقی میں بھی معاون ثابت ہو گی۔ کینیڈا کے انفراسٹرکچر پلان کے ذریعے ہزاروں پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ زیادہ صاف اور وابستہ کمیونٹیز کو فروغ دیتا ہے۔"

- سونیا سدھو، ممبر آف پارلیمنٹ فار برامپٹن ساؤتھ منجانب عزت مآب کیتھرین میک کینا، فیڈرل منسٹر فار انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

"برامپٹن کے تفریحی مقامات پر آج کی سرمایہ کاری سے، دراصل ہم آنے والے برسوں میں اپنی کمیونٹی کی طویل مدتی نشوونما اور ترقی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ساؤتھ فلیچرز اسپورٹس پلئیکس میں بنایا جانے والا نیا یوتھ ہب ہمارے نوجوانوں کو ایک مقام پر اکٹھا ہونے کے لیے جگہ مہیا کرے گا اور اس سے ہماری کمیونٹی کو بھی باہم مربوط ہونے کی جگہیں میسر آئیں گی۔"

- جناب پرامیبت سرکاریہ، ایسوسی ایٹ منسٹر برائے شمال بزنس اینڈ ریڈیٹیو ریڈکشن اور برامپٹن ساؤتھ کے ممبر آف پرووینشل پارلیمنٹ، منجانب عزت مآب لوری اسکاٹ، اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

"ساؤتھ فلیچرز یوتھ ہب جیسی تفریحی سہولیات کے ہمارے مقامی منصوبوں کے لیے فنڈ فراہم کر کے ہمارے میونسپلٹی پارٹنرز کی امداد سے ہماری کمیونٹیز مضبوط، خوش، محفوظ اور صحت مند بنیں گی۔ چونکہ ہماری کمیونٹی میں ترقی اور توسیع کا عمل جاری ہے، لہذا ہمارے مقامی پبلک انفراسٹرکچر میں یہ سرمایہ کاری برامپٹن کے نوجوانوں کے معیار زندگی کو مزید بہتر بنائے گی۔"

- امرجوت سندھو، ممبر آف پرووینشل پارلیمنٹ برائے برامپٹن ویسٹ

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹس**

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

**چینٹیل ابرٹن**

پریس سیکریٹری  
آفس آف دی منسٹر آف انفراسٹرکچر اینڈ کمیونٹیز

613.941.0660 | [chantalle.aubertin@canada.ca](mailto:chantalle.aubertin@canada.ca)

**کرسٹین بوجولڈ**

پریس سیکریٹری  
آفس آف دی انرایبل لوری اسکاٹ، اونٹیریو منسٹر آف انفراسٹرکچر

416.454.1782 | [christine.bujold@ontario.ca](mailto:christine.bujold@ontario.ca)

**سوفیہ سوسہ ڈیاس**

کمیونیکیشنز برانچ  
اونٹیریو منسٹری آف انفراسٹرکچر

437.991.3391 | [sofia.sousa-Dias@ontario.ca](mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca)

**میڈیا ریلیشنز**

انفراسٹرکچر کینیڈا

613-960-9251

ٹول فری: 1.877.250.7154

ای میل: [infc.media.infc@canada.ca](mailto:infc.media.infc@canada.ca)

ہمیں ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔

ویب: [انفراسٹرکچر کینیڈا](http://infc.ca)